

رہبر معظم انقلاب اسلامی کی موجودگی میں محفل انس با قرآن منعقد – 25 / Apr / 2020

رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنہ ای کی موجودگی میں رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ، ضیافت الہی اور بہار قرآن کی مناسبت سے مصلیٰ امام خمینی (رہ) سے محفل انس با قرآن کا پروگرام براہ راست نشر کیا گیا جس میں قرآن مجید کے بعض قاریوں نے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔

رہبر معظم انقلاب اسلامی نے اس پروگرام میں اپنے براہ راست خطاب میں رمضان المبارک اور ماہ نزول قرآن کی آمد کے موقع پر مبارک باد پیش کی اور انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے بعض ضوابط اور قواعد کے بارے میں قرآن مجید کے بعض سعادت بخش اور عملی دستورات کی طرف اشارہ فرمایا۔

رہبر معظم انقلاب اسلامی نے ظلم ، تبعیض ، جنگ ، بد امنی ، اقدار کی پامالی سے بچنے اور امن و سلامتی اور آسائش کی حکمرانی کا واحد راستہ قرآن مجید کے نورانی دستورات پر عمل کو قرار دیتے ہوئے فرمایا: قرآن مجید کے بعض عملی دستورات زندگی کے قواعد اور ضوابط پر مشتمل ہیں۔ اگر انسان کی زندگی کی بنیاد قدرت ، ثروت اور شہوت پر استوار ہو تو یہ انسان حقیقی اور آخروی زندگی سے بے بہرہ اور بے نصیب ہو جائے گا، لیکن اگر انسان دنیا میں زندگی کی بنیاد نیکی اور اچھے عمل پر برقرار کرے تو انسان قطعی طور پر زندگی کے حقیقی اور اصلی مقاصد تک بھی پہنچ جائے گا۔

رہبر معظم انقلاب اسلامی نے قرآن مجید کے عملی دستورات میں قدرت اور ثروت جیسی الہی نعمتوں کو دوسرے انسانوں کی زندگی آباد کرنا ، نیاز مندوں کی ضروریات کو پورا کرنا اور اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ نیکی کرنا قرار دیا۔

رہبر معظم انقلاب اسلامی نے قرآن مجید کے دوسرے عملی دستورات کو اجتماعی اور سماجی تعلقات میں مؤثر قرار دیتے ہوئے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے ان دستورات میں " معاشرے میں غیبت کی ممنوعیت " اور " عدل و انصاف کی رعایت ، حتی دشمنوں اور مخالفین کے ساتھ انصاف کی رعایت " شامل ہے۔

رہبر معظم انقلاب اسلامی نے قرآن مجید کے دیگر دستورات میں " عدم یقین پر مبنی موضوعات کی عدم پیروی " قرار دیا اور دنیا میں رائج جرنلزم کی سب سے بڑی مشکل اس دستور پر عدم عمل اور اس کے خلاف پروپیگنڈہ قرار دیا۔

رہبر معظم انقلاب اسلامی نے فرمایا: افسوس ہے کہ ایسے افراد ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہیں۔

رہبر معظم انقلاب اسلامی نے " ظالموں پر اعتماد اور ان کی طرف رجحان سے اجتناب " ، " زندگی میں عدل و انصاف کی رعایت " اور " امانت میں خیانت نہ کرنے " کو اسلام کی دیگر ہدایات اور دستورات قرار دیا اور خیانت نہ کرنے کو مسؤلیت اور ذمہ داری میں بھی شمار کرتے ہوئے فرمایا: دشمن سے نہ ڈرنا اور اس کے مد مقابل مضبوط اور مستحکم انداز میں استقامت دکھانا ، قرآن مجید کے اہم دستورات میں شامل ہے۔ آج بعض اسلامی حکومتوں کی صورتحال اور ظالم طاقتوں کے ذریعہ ان کی تذلیل اور تحقیر ، اسلام دشمن طاقتوں سے ڈرنے کا نتیجہ ہے۔

رہبر معظم انقلاب اسلامی نے منہ زور اور ظالم طاقتوں سے خوفزدہ نہ ہونے کو حضرت امام (رہ) کا سبق آموز ،

عظیم درس اور شاندار سیرت قرار دیتے ہوئے فرمایا: امریکہ سے خوفزدہ ہونے کے تلخ نتائج سامنے آئیں گے۔ ہم نے ماضی میں اپنی بعض حکومتوں کو مشاہدہ کیا ہے کہ امریکہ کے خوف سے وہ سخت مشکلات سے دوچار ہو گئیں۔

رببر معظم انقلاب اسلامی نے نماز کو اللہ تعالیٰ کے لئے خلوص سے ادا کرنے اور رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار اور عفو و بخشش کو روح کی بلندی اور مضبوطی کے لئے اہم قرار دیا۔

رببر معظم انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب کے اختتام ایرانی قوم، مسلمانوں، خاص طور پر اسلامی حکومتوں اور مسلمان حکمرانوں سے قرآن مجید کے دستورات اور ہدایات پر عمل کرنے کی پرتوقع ظاہر کی کیونکہ مشکلات کو حل کرنے کا یہ شفا بخش اور بہترین نسخہ ہے۔

اس نورانی پروگرام میں قرآن مجید کے بعض اساتید، جوان قاریوں اور ایک مناجات خواں جوان نے حصہ لیا۔